



آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2020 میں پاکستان کے سفر پر عروج ممتاز کا اظہار خیال

لاہور، 3 مارچ 2020ء:

تھائی لینڈ ویمنز ٹیم کے خلاف بغیر کسی نتیجے کے ختم ہونے والے میچ کے بعد آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2020 میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کو دل چھوٹا نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔

عالمی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ساتویں نمبر پر موجود قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایونٹ میں اپنے سفر کا آغاز ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کو شکست دے کر کیا تھا۔ 2016 ورلڈکپ کی چیمپئن ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم فی الحال آئی سی سی ٹی ٹونٹی ویمنز رینکنگ میں پانچویں نمبر پر موجود ہے۔

ویسٹ انڈیز سے کامیابی کے بعد پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیموں سے مسلسل 2 شکستوں کے باعث ایونٹ سے باہر ہونا پڑا۔ انگلینڈ ویمنز ٹیم عالمی رینکنگ میں دوسرے اور جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیم چھٹے نمبر پر موجود ہے۔

ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے اپنا آخری گروپ میچ 3 مارچ کو تھائی لینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیلا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجہ کے ختم کر دیا گیا۔

عروج ممتاز، چیئر آف ویمنز سلیکشن کمیٹی:

ویمنز سلیکشن کمیٹی کی چیئر پرسن عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم سے کامیابی کے بعد قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی کی امید تھی۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کو مجموعی طور پر تیسری مرتبہ شکست دینے والی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی حاصل نہ کر پانا، مایوسی کا باعث ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ انگلینڈ ویمنز ٹیم کے خلاف ناتجربہ کاری اور جنوبی افریقہ ویمنز ٹیم کے خلاف میچ میں بسمہ معروف کی عدم دستیابی کے باعث پے درپے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بسمہ معروف دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں فریکچر کے باعث میچ میں شرکت نہیں کر سکی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بسمہ معروف کی انجری قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے سفر پر بہت اثر انداز ہوئی کیونکہ میگا ایونٹ کے تمام میچوں میں کپتان کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ سے حاصل ہونے والا تجربہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے آئندہ ایونٹس میں سودمند ثابت ہوگا جو ویمنز کرکٹ میں پاکستان اور دیگر بین الاقوامی ٹیموں کے درمیان فرق کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

ویسٹ انڈیز کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2009 سے اب تک کھیلے گئے میگا ایونٹس کے کُل 28 میچوں میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی ساتویں جیت تھی۔ اس سے قبل پاکستان نے بھارت (2012 اور 2016)، آئرلینڈ (2014) اور (2018)، سری لنکا (2014) اور بنگلہ دیش کو 2016 میں شکست دی تھی۔

عروج ممتاز نے کہا کہ آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 20-2017 میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم فی الحال پانچویں پوزیشن پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچاس اوورز پر مشتمل اس فارمیٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز سے آگے ہے، لہذا قومی خواتین کرکٹ کے کھیل کے معیار میں بہتری واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک سطح پر کی جانے والی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی سطح پر کھلاڑیوں کو فراہم کردہ سہولیات کے باعث قومی خواتین کرکٹ ٹیم میں مزید بہتری آئے گی۔

چیئر آف ویمنز سلیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں جاری ایونٹ کے دوران ندا ڈار اور جویریہ خان پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی جانب سے 100 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی بالترتیب تیسری اور چوتھی کرکٹ بنیں، اس سے قبل یہ اعزاز بسمہ معروف اور ثناء میر کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پی سی بی کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ دونوں کرکٹرز پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کرتی رہیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk 
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb) 
[@PakistanCricketBoard](https://twitter.com/PakistanCricketBoard) 
[@PakistanCricketOfficial](https://twitter.com/PakistanCricketOfficial) 
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb) 

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4